



## سوال

(837) طریقہ بتائیں کہ میرے علم و عمل میں اضافہ ہو جائے

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

حافظ صاحب کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میرے علم و عمل میں اضافہ ہو جائے اور روحانی و قلبی سکون حاصل ہو۔ اور میرے حالات بھی سدھر جائیں اور میں دوسروں کی حق تلفی بھی چھوڑ دوں۔ (ایک سائل، نیویارک، امریکہ)

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

آپ کے لیے مناسب ہے کہ آپ قرآن مجید، صحیح بخاری، صحیح مسلم، عمدۃ الاحکام، اللؤلؤ والمرجان اور ریاض الصالحین یا ترجمہ انگریزی یا اردو جو آپ بخوبی سمجھ سکتے ہوں کہیں سے حاصل کر لیں اور روزانہ باقاعدگی سے ان کا مطالعہ کریں ان شاء اللہ الرحمن آپ کے علم و عمل میں اضافہ ہوگا نیز قلبی و روحانی سکون نصیب ہوگا ان شاء اللہ العزیز۔

آپ اس مطالعہ کو اپنی ذمہ داری قرار دے لیں اس طرح آپ دوسروں کی حق تلفی بھی چھوڑ دیں گے اور آپ کی طبیعت میں ایک قسم کی نشاط پیدا ہوگی۔ ان شاء اللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيُغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المحید: ۲۸] "اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے اور تمہارے گناہ بھی معاف فرمادے گا اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔"

اس نسخہ پر عمل پیرا ہو جائیں، آپ کے تمام حالات سدھر جائیں گے۔ ان شاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ۱، ۳، ۱۰، ۲۲، ۲۱ھ

## قرآن و حدیث کی روشنی میں احکام و مسائل

جلد 02 ص 798



## محدث فتویٰ